



سوال

(638) ایام حیض میں جماع کر بیٹھے تو کیا کرے؟

جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

اگر کوئی شخص ایام حیض میں مباشرت (جماع) کا مرتکب ہو تو اس پر کیا لازم ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام على رسول اللہ، أما بعد!

جو شخص کسی حالت سے مباشرت (جماع) کا مرتکب ہو تو اس پر واجب ہے کہ ایک دینار یا آدھا دینار کفارہ دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایسے ہی مروی ہے۔ کفارہ جیسے قسم توڑنے پر آتا ہے، ایسے ہی گناہ کے ارتکاب پر بھی آتا ہے۔ اس سے غرض یہ ہے کہ اس گناہ کی سزا میں تخفیف ہو جائے، اور یہ تکمیل توبہ کا ایک حصہ ہوتا ہے۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

احکام و مسائل، خواتین کا انسائیکلو پیڈیا

صفحہ نمبر 451

محدث فتویٰ